



سوال

(80) مسجد کو کسی دوسری ہیئت (حالت) میں بدلنا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے باہر ایک مسجد تھی لیکن اب گاؤں والوں نے گاؤں کے اندر ہی نئی مسجد بنالی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اب ہم اس پہلی مسجد کو جو بالکل بند پڑی ہے اسے سکول بنا سکتے ہیں یا مسجد کی عمارت شہید کر کے اسے عید گاہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد بالکل بند ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ (ایک سائل)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بہتر یہ ہے کہ مسجد کو تبدیل نہ کیا جائے بلکہ اسے آباد کیا جائے۔ اگر اس گاؤں کے صحیح العقیدہ لوگ بالاتفاق اسے عید گاہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انھوں نے کہا:

"حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے مسجد کا کچھ حصہ راستہ میں ملا کر اس کو فراخ کر دیا۔ ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ اہل حدیث ج 1 ص 349)

اس سلسلے میں انھوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی استدلال کیا ہے کہ انھوں نے جامع مسجد، کھجوروں کے تاجروں سے بدل کر دوسری جگہ لے گئے اور وہاں بازار بن گیا۔ (ایضاً)

اس کے برعکس بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں مسجد بن جائے اسے قیامت تک تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔ (شہادت، جولائی 1999ء)

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

جلد 1 - کتاب المساجد - صفحہ 238

محدث فتویٰ